

[TO BE INTRODUCED IN THE NATIONAL ASSEMBLY]

A

Bill

further to amend the Anti-terrorism Act, 1997

WHEREAS it is expedient further to amend the Anti-terrorism Act, 1997 (Act XXVII of 1997), for the purposes hereinafter appearing;

It is hereby enacted as follows:-

1. Short title and commencement.— (1) This Act may be called the Anti-terrorism (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 6, Act XXVII of 1997.— In the Anti-terrorism Act, 1997 (Act XXVII of 1997), hereinafter referred to as the said Act, in section 6, in sub-section (7), in clauses (a) and (b), for the words “an individual”, the words “any person” shall be substituted.

3. Amendment of section 11EE, Act XXVII of 1997.— In the Act, in section 11EE, in sub-section (2), in clause (c),—

(a) in sub-clause (iii), the word “and” occurring at the end shall be omitted; and

(b) after sub-clause (iv), the following new sub-clauses shall be inserted, namely;—

“(v) no bank or financial institution or any other entity providing financial support shall provide any loan facility or financial support to proscribed person or issue the credit cards to proscribed person; and

(vi) the arms licenses, if already issued, shall be deemed to have been cancelled and the arms shall be deposited forthwith in the nearest Police Station, failing which such arms shall be confiscated and the holder of such arms shall be liable for the punishment provided under the Pakistan Arms Ordinance, 1965 (W.P. Ord.XX of 1965). No fresh license shall be issued to such person for any kind of weapons.”.

4. Amendment of section 11J, Act XXVII of 1997.— In the said Act, in section 11J, after sub-section (2), the following new sub-sections shall be inserted, namely:-

“(3) A person commits an offence if he pays for or provides money or other property or facilitate in any manner the travel of a person anywhere for the purpose of perpetrating, participating in, assisting or preparing for a terrorist act or for the purpose of providing or receiving training for terrorist related activities.

(4) The provisions of sub-section (2) shall also apply to the following;

(a) organizations owned or controlled, directly or indirectly, by proscribed organizations or proscribed persons; and

(b) Persons or organizations acting on behalf of, or at the direction of, proscribed organizations or proscribed persons.”.

5. Amendment of section 11N, Act XXVII of 1997.— In the said Act, in section 11N,—

(a) the existing section shall be renumbered as sub-section (1);

(b) in sub-section (1), renumbered as aforesaid, after the word “fine”, the words “not exceeding twenty-five million rupees” shall be inserted ; and

(c) after sub-section (1), renumbered as aforesaid, the following new sub-sections shall be inserted, namely:-

“(2) If a legal person commits an offence under sections 11H to 11K such person shall be liable on conviction to a fine not exceeding fifty million rupees.

(3) Every director, officer or employee of such legal person found guilty shall be punishable on conviction with imprisonment for a term not less than five years and not exceeding ten years with fine not exceeding twenty-five million rupees.”.

6. Amendment of section 11O, Act XXVII of 1997.— In the said Act, in section 11O, in sub-section (1),—

- (a) in clause (a), after the word "indirectly", the words "or jointly" shall be inserted and after the words "may be", the comma and word " , without any prior notice and without delay" shall be added;
- (b) in clause (b), after the words "may be", the comma and word " , without any prior notice and without delay" shall be added;
- (c) in clause (c), the word "and" occurring at the end shall be omitted;
- (d) for clause (d), the following shall be substituted, namely:-

"(d) within forty-eight hours of any freeze or seizure, the person carrying out the freeze or seizure or any action under clause (c) above, and shall set out the steps taken to ensure that no money, property or services are made available, directly or indirectly, wholly or jointly, for the benefit of the proscribed organization or person and shall submit a report containing details of the property and the persons affected by the freeze or seizure to such office of the Federal Government as may be notified in the official Gazette; and"; and

- (e) after clause (d), substituted as aforesaid, the following new clause, shall be added, namely:-

(e) the money or other property of any person acting on behalf of, or at the direction of, proscribed persons or organizations shall be frozen or seized, as the case may be, without any prior notice and without delay."

7. Amendment of section 1100, Act XXVII of 1997.— In the Act, in section 1100, in sub-section(1), for the expression, "required for meeting necessary medical and educational expenses and for subsistence allowance," the expression "basic expenses, including payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges, or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges for routine holding or maintenance of frozen funds or other financial assets or economic resources or such money as may be required for meeting extraordinary expenses," shall be substituted.

Jalvi

8. Amendment of section 11Q, Act XXVII of 1997.— In the Act, in section 11Q, after sub-section (6), the following new sub-section shall be inserted, namely :-

“(6A) Where the Court is satisfied that property subject to forfeiture under this section cannot be identified or located, or readily be subjected to the jurisdiction of the Court, it may order the forfeiture of any other property of the accused of an equivalent value to the property subject to forfeiture which identified or located in another jurisdiction.”.

9. Amendment of section 19, Act XXVII of 1997.— In the Act, in section 19, in sub-section (1),—

- (a) for the word “Inspector”, the words “Sub -Inspector” shall be substituted;
- (b) after the word “members.”, the expression, “the Joint Investigation Team may co-opt any additional person from any Federal or Provincial institution or department as it deems appropriate for investigation” shall be inserted; and
- (c) for the word “directly”, the words “through Public prosecutor”, shall be substituted.

10. Amendment in section 21EE, Act XXVII of 1997.— In the said Act, in section 21EE,—

- (i) in sub-section (1) in clause (d), for the words “with the permission of the Anti-terrorism Court” the words “with the permission of Deputy Inspector General or any other officer of equivalent rank” shall be substituted; and
- (ii) in sub-section (3), for the expression “two years or with fine which may extend to one hundred thousand rupees or with both”, the expression “three years or with fine which may extend to one million rupees in case of an individual and ten million rupees in case of a legal person or with both” shall be substituted.

J. Talbi

No. 7/19/2019-Ptns
GOVERNMENT OF PAKISTAN
MINISTRY OF INTERIOR


Islamabad, the ^{23rd} July, 2020

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Subject: AMENDMENT IN ANTI-TERRORISM (SECOND AMENDMENT) ACT, 2020.

In order to enhance the effectiveness of the implementation of the Orders passed by the Federal Government under the Anti-terrorism Act, 1997 (XXVII of 1997) and the United Nations (Security Council) Act, 1948 (XIV of 1948), the amendments are considered essential in the Anti-terrorism Act, 1997. The scope of the application of the penalties needs to be extended to those who are involved in terrorism in any manner outside the boundaries of the country. In addition, it is considered essential to match the penalties, fines and restrictions for same kind of punishments and to provide legal powers to the Law enforcement agencies for speedy trial and disposal of cases. Furthermore, the facilities required for meeting the necessary expenses through exemptions are also required to be incorporated in detail.

2. The freezing of assets of Proscribed persons, proscribed organizations and the affiliates is necessary to curb the terrorism.


(Zaheer ud Din Babar Awan)
Advisor to the Prime Minister
on Parliamentary Affairs.

بیان اغراض ووجوه

موضوع: انسدادِ ہشت گردی (ترمیم دوم) ایکٹ، ۲۰۲۰ء میں ترمیم

انسدادِ ہشت گردی ایکٹ، ۱۹۹۷ء (۲۷ بابت ۱۹۹۷ء) اور اقوام متحدہ (سلامتی کونسل) ایکٹ، ۱۹۴۸ء (۱۴ بابت ۱۹۴۸) کے تحت وفاقی حکومت کی طرف سے جاری کردہ حکم ناموں کے موثر اطلاق کو وسعت دینے کے لیے، انسدادِ ہشت گردی ایکٹ، ۱۹۹۷ء میں ترمیم نہایت ضروری سمجھی گئی ہیں۔ سزاؤں کے اطلاق کی وسعت کو ان تک بڑھانے کی ضرورت ہے جو ملک کی حدود سے باہر کسی بھی طور پر ہشت گردی میں ملوث ہیں۔ مزید برآں، ایسی ہی نوعیت کی سزاؤں کے لیے سزاؤں، جرمانوں اور بندش کی موافقت اور تیز رسامعت اور مقدمات کے تصفیہ کے لیے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو قانونی اختیارات فراہم کرنا نہایت ضروری سمجھے گئے ہیں۔ مزید یہ کہ، بذریعہ استثناء کے ذریعے ضروری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے درکار سہولیات تفصیل سے شامل ہوں۔

۲۔ ممنوعہ اشخاص، ممنوعہ تنظیموں اور الحاق کنندگان کے اثاثہ جات کو ہشت گردی کے خاتمے کے لیے منجمد کرنا ضروری ہے۔

(ظہیر الدین بابر اعوان)

مشیر وزیر اعظم برائے پارلیمانی امور

(اول) ذیلی دفعہ (۱) میں، شق (د) میں الفاظ ”انسدادِ دہشت گردی کی عدالت کی اجازت سے“ کو الفاظ ”ڈپٹی انسپکٹر جنرل یا عہدہ کے برابر کسی دیگر افسر کی اجازت سے“ سے تبدیل کیا جائے گا؛ اور

(دوم) ذیلی دفعہ (۳) میں، عبارت ”دو سال یا جرمانہ جو کہ ایک لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے یا پھر دونوں“ کو عبارت ”تین سال یا جرمانہ جو کہ ایک فرد کے ہونے کی صورت میں دس لاکھ اور قانونی شخص ہونے کی صورت میں ایک کروڑ روپے تک ہو سکتا ہے یا پھر دونوں“ سے تبدیل کیا جائے گا۔

۷۔ ایکٹ نمبر ۲۷ بابت ۱۹۹۷ء کی، دفعہ ۱۱ اس کی ترمیم۔ ایکٹ میں، دفعہ ۱۱ اس میں، ذیلی دفعہ (۱) میں، عبارت ”ضروری طبی اور تعلیمی اخراجات پورا کرنے کے لیے مطلوب ہوں اور خورد و نوش الاؤنس“ کو عبارت ”بنیادی اخراجات، جس میں اشیائے خوردنی، کرایہ یا رہن، ادویات اور طبی علاج، محاصل، بیمہ پریمیم اور سرکاری یوٹیلٹی چارجز، یا خاص طور پر معقول پیشہ دارانہ فیسوں کی ادائیگیاں اور قانونی خدمات کے انتظام سے منسلک عائد کردہ اخراجات کے لیے باز ادائیگی، یا روزمرہ کام کے لیے فیس یا سروس چارجز یا دیگر منجملہ فنڈ یا مالیاتی اثاثہ جات یا معاشی وسائل کو قائم رکھنے یا ایسی رقم جو کہ غیر معمولی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مطلوب ہوں، شامل ہیں“ سے تبدیل کر دیا جائے گا۔

۸۔ ایکٹ نمبر ۲۷ بابت ۱۹۹۷ء کی، دفعہ ۱۱ میں ترمیم۔ ایکٹ میں، دفعہ ۱۱ ف میں، ذیلی دفعہ (۶) کے بعد، درج ذیل نئی ذیلی دفعہ کا اندراج کیا جائے گا، یعنی:-

” (۶ الف) جہاں عدالت کو اطمینان حاصل ہو کہ اس دفعہ کے تحت تنزیلی سے مشروط جائیداد کی شناخت نہیں کی جاسکتی یا واقع نہیں ہو، یا عدالت کی علاقائی حدود میں فوری طور پر تابع نہ لائی جاسکتی ہو تو یہ ملزم کی کسی دیگر جائیداد کی تنزیلی کا حکم صادر کر سکے گی جس کی قدر تنزیلی سے مشروط جائیداد کے برابر ہو جس کی دوسری علاقائی حدود میں شناخت کی گئی ہو یا واقع ہو۔“

۹۔ ایکٹ نمبر ۲۷ بابت ۱۹۹۷ء کی، دفعہ ۱۹ میں ترمیم۔ ایکٹ میں، دفعہ ۱۹ میں، ذیلی دفعہ (۱) میں، ---

(الف) لفظ ”انسپکٹر“ کو الفاظ ”سب انسپکٹر“ سے تبدیل کیا جائے گا؛

(ب) لفظ ”اراکین“ کے بعد، عبارت ”مشترکہ تفتیشی ٹیم کسی وفاقی یا صوبائی ادارے سے کسی

اضافی شخص کے ساتھ تعاون کر سکے گی جیسا تفتیش کے لیے مناسب خیال کیا جائے“ کا

اندراج کیا جائے گا؛ اور

(ج) لفظ ”بلا واسطہ“ کو الفاظ ”بذریعہ سرکاری وکیل“ سے تبدیل کیا جائے گا۔

۱۰۔ ایکٹ نمبر ۲۷ بابت ۱۹۹۷ء کی، دفعہ ۵۵۲ میں ترمیم۔ مذکورہ ایکٹ میں، دفعہ ۵۵۲

میں، ---

ہے تو ایسا شخص جرمانے کی سزا کا مرتکب ہوگا جو پچاس ملین روپوں سے زائد نہ ہوگا۔
 (۳) ایسے قانونی شخص کا ہر ڈائریکٹر، افسر یا ملازم قصور وار پایا جائے تو قید کی
 سزا کا مرتکب ہوگا جس کی میعاد پانچ سال سے کم اور دس سال سے زائد نہ ہوگی جرمانے
 کے ساتھ جو پچیس ملین روپوں سے زائد نہ ہوگا۔“

۶۔ ایکٹ نمبر ۲۷ بابت ۱۹۹۷ء کی، دفعہ ۱۱ اس میں ترمیم۔
 مذکورہ ایکٹ میں، دفعہ ۱۱ اس
 میں، ذیلی دفعہ (۱) میں، ---

(الف) شق (الف) میں لفظ ”بلواسطہ“ کے بعد الفاظ ”یا مشترکہ طور پر“ کا اندراج کیا جائے گا اور
 الفاظ ”کر سکیں گے“ کے بعد سکتہ اور لفظ ”ما قبل بلا نوٹس اور بلا تاخیر“ کا اضافہ کیا جائے گا؛
 (ب) شق (ب) میں الفاظ ”کر سکیں گے“ کے بعد، سکتہ اور لفظ ”ما قبل بلا نوٹس اور بلا تاخیر“ کا
 اضافہ کیا جائے گا؛

(ج) شق (ج) میں، آخر میں آنے والے لفظ ”اور“ کو حذف کر دیا جائے گا؛

(د) شق (د) کے لیے، درج ذیل کو تبدیل کر دیا جائے گا، یعنی:-

” (د) کسی منجند کرنے یا ضبطی کے اثرائت لیس گھنٹوں کے اندر، متذکرہ بالا شق (ج) کے
 تحت شخص منجند کرے یا ضبطی کرے یا کوئی عمل بجالائے، اور یقین دہانی کے لیے
 اقدام اٹھائے گا کہ ممنوعہ تنظیم یا شخص کے فائدے کے لیے کوئی رقم، جائیداد یا
 خدمات بالواسطہ یا بلا واسطہ، مجموعی طور پر یا مشترکہ طور پر دستیاب نہ کیے گئے ہیں
 اور وفاقی حکومت کے ایسے دفتر رپورٹ جمع کروائے گا جس میں جائیداد اور منجند
 کرنے اور ضبطی سے متاثرہ افراد کی تفصیلات شامل ہوں گی جیسا کہ سرکاری
 جریدے میں مشترکہ کی جاسکے؛ اور“ اور

(ہ) متذکرہ بالا تبدیل کی گئی شق (د) کے بعد، درج ذیل نئی شق کا اضافہ کیا جائے گا، یعنی:-

” (ہ) ممنوعہ اشخاص یا تنظیموں کی بناء پر، یا ہدایت پر کام کرنے والے کسی بھی شخص کی رقم
 یا دیگر جائیداد کو، جیسی بھی صورتحال ہو، ما قبل کسی نوٹس کے بغیر اور بلا تاخیر منجند اور
 ضبط کیے جائیں گے۔“

ناکامی کی صورت میں ایسے اسلحہ جات ضبط کر لیے جائیں گے اور مذکورہ اسلحہ جات رکھنے والا فراہم کردہ پاکستان اسلحہ جات آرڈیننس، ۱۹۶۵ء (مغربی پاکستان۔ آرڈیننس ۲۰ مجریہ ۱۹۶۵ء) کے تحت سزا کا مرتکب ہوگا۔ ایسے شخص کو اسلحہ جات کی کسی بھی نوعیت کا نیا لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا۔

۴۔ ایکٹ نمبر ۲۷ بابت ۱۹۹۷ء کی، دفعہ ۱۱ میں ترمیم۔ مذکورہ ایکٹ میں، دفعہ ۱۱ ی

میں، ذیلی دفعہ (۲) کے بعد، درج ذیل نئی دفعات کا اندراج کیا جائے گا، یعنی:-

” (۳) ایک شخص جرم کا ارتکاب کرتا ہے اگر وہ دہشت انگیز عمل کے لیے یا دہشت گردی سے متعلقہ کارروائیوں کے لیے تربیت فراہم کرنے یا لینے کی غرض سے مرتکب ہونے میں، شمولیت کرنے میں، معاونت اور تیاری کرنے کی غرض سے ایک شخص کو کہیں بھی سفر کی بابت رقم کی ادائیگی کرتا ہے یا فراہم کرتا ہے یا کسی بھی صورت میں دیگر جائیداد یا سہولت فراہم کرتا ہے۔

(۴) ذیلی دفعہ (۲) کے احکامات درج ذیل پر اطلاق پذیر ہوں گے:

(الف) ممنوعہ تنظیموں یا ممنوعہ اشخاص کی جانب سے، بالواسطہ یا بلاواسطہ، تنظیموں کے مالک ہوں یا

نگرانی کریں؛ اور

(ب) ممنوعہ تنظیموں یا ممنوعہ اشخاص کی بناء پر، یا ہدایت پر کام کرنے والے اشخاص یا تنظیمیں۔“

۵۔ ایکٹ نمبر ۲۷ بابت ۱۹۹۷ء کی، دفعہ ۱۱ میں ترمیم۔ مذکورہ ایکٹ میں، دفعہ ۱۱ ان

میں، ---

(الف) موجودہ دفعہ کو ذیلی دفعہ (۱) کے طور پر دوبارہ سے نمبر لگایا جائے گا؛

(ب) متذکرہ بالا دوبارہ سے نمبر لگائی گئی، ذیلی دفعہ (۱) میں، لفظ ”جرمانہ“ کے بعد الفاظ ”پچیس ملین

روپوں سے زائد نہ ہوگا“ اور

(ج) متذکرہ بالا دوبارہ سے نمبر لگائی گئی، ذیلی دفعہ (۱) کے بعد، درج ذیل نئی ذیلی دفعات کا

اندراج کیا جائے گا، یعنی:-

” (۲) اگر ایک قانونی شخص دفعات ۱۱ ح تا ۱۱ اک کے تحت جرم کا ارتکاب کرتا

[قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لئے]

انسدادِ دہشت گردی ایکٹ، ۱۹۹۷ء میں مزید ترمیم

کرنے کا بل

ہر گاہ کہ یہ قرین مصلحت ہے کہ بعد ازیں ظاہر ہونے والے اغراض کے لئے انسدادِ دہشت گردی ایکٹ، ۱۹۹۷ء (نمبر ۲۷ بابت ۱۹۹۷ء) میں مزید ترمیم کی جائے؛ بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے۔

۱۔ مختصر عنوان اور آغاز نفاذ۔ (۱) یہ ایکٹ انسدادِ دہشت گردی ایکٹ (ترمیمی) بل، ۲۰۲۰ء کے نام سے موسوم کیا جاسکے گا۔
(۲) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ ایکٹ نمبر ۲۷ بابت ۱۹۹۷ء کی دفعہ ۶ میں ترمیم۔ انسدادِ دہشت گردی ایکٹ، ۱۹۹۷ء (نمبر ۲۷ بابت ۱۹۹۷ء) میں، بعد ازیں جس کا حوالہ مذکورہ ”ایکٹ“ کے طور پر دیا گیا ہے، کی دفعہ ۶ میں، ذیلی دفعہ (۷) میں، شقارت (الف) اور (ب) میں الفاظ ”ایک فرد“ کو الفاظ ”کوئی شخص“ سے تبدیل کر دیا جائے گا۔

۳۔ ایکٹ نمبر ۲۷ بابت ۱۹۹۷ء کی دفعہ ۱۱۰ میں ترمیم۔ ایکٹ میں، دفعہ ۱۱۰ میں، ذیلی دفعہ (۲) میں، شق (ج)، میں، ---

(الف) ذیلی شق (سوم) میں، آخر میں آنے والے لفظ ”اور“ کو حذف کر دیا جائے گا؛ اور
(ب) ذیلی شق (چہارم) کے بعد، درج ذیل نئی ذیلی شق کا اندراج کیا جائے گا، یعنی؛
” (پنجم) کوئی بینک یا مالی ادارہ یا کوئی دیگر مالی معاونت فراہم کرنے والے ہیئت ممنوعہ شخص کو کسی بھی قرضہ کی سہولت یا مالی معاونت فراہم نہیں کرے گی یا ممنوعہ شخص کو کریڈٹ کارڈ جاری نہیں کرے گی؛ اور

(ششم) اسلحہ جات لائسنس، اگر پہلے سے ہی جاری کیے گئے ہوں تو منسوخ شدہ متصور ہوں گے اور بغیر کسی تاخیر کے نزدیکی پولیس اسٹیشن جمع کروائے جائیں گے،